



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَلِلْمُؤْمِنِينَ نُورٌ فِي الظُّلُمَاتِ وَنُورٌ مُّبِينٌ

(IUL)320-ADHR/320/2023/110 : ۲۰۲۳

۲۷

رقم:	نامہ میں مذکور ڈسٹرکٹ سطح	شہریوں کے تعداد:
جنس:	جنس:	جنس:
نامہ نمبر:	نامہ نمبر:	نامہ نمبر:
مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:
مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:
مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:
مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:	مذکور ڈسٹرکٹ میں ایک جمعیت کا نامہ:





دِرَرِ الدُّرْرَجَاتِ

١. قُبَّلَتْ تَرْقِيَّةَ حَمِيقَيْرَةَ حَمِيقَيْرَةَ حَمِيقَيْرَةَ (حَمِيقَيْرَةَ سَمَرْوَنَةَ تَدْجِنَةَ) حَمِيقَيْرَةَ حَمِيقَيْرَةَ حَمِيقَيْرَةَ حَمِيقَيْرَةَ

2. وَجْهَ قَوْدَرْتَ لَيْلَى قَوْدَرْمُو وَسَوْعَنْ (كَوْسَرْ قَوْدَرْ سَوْرَتَهَمَرْ) .
جَرْجَرْ كَوْدَرْ مَهَرْ.)

٤- سُوْلَمْ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ / سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- (۵) مَوْهِبَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُحَمَّدٌ نَّبِيًّا

(سر) مکاریں کو حمی مدد و فضل دے رہا تھا اسی تحریر پر فوج مدد و فضل دے رہی تھیں



مَوْسِعَةٍ لِلرَّجُلِ الْمُهَاجِرِ (أَيْ أَنَّهُ يَتَرَكَّبُ عَلَى مَوْقِعِهِ فَيَنْهَا دَارِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ سَرَّادُونَ) وَلِلْمُهَاجِرِ

(٥) حَدَّدَتْ مُوَجَّهَةَ دَرَوِيَّةَ وَرَوِيَّةَ مِنْ خَلْقِهِ، سَوْمَهُ دُعَوِيَّةَ قَرَوِيَّةَ وَأَدْجَنْتَهُ شَنْدَرَتْ مُسَوَّمَهُ
أَدْجَنْتَهُ مِنْ خَلْقِهِ، سَوْمَهُ دُغَوِيَّةَ قَرَوِيَّةَ وَكَرْجَدَهُ سَوْمَهُ شَنَّوَهُ دُغَوِيَّةَ قَرَوِيَّةَ
شَنَّوَهُ دُغَوِيَّةَ قَرَوِيَّةَ سَوْمَهُ، أَفْرَنْتَهُ وَرَوِيَّهُ وَعَيْهُ وَأَخْرَ عَيْهُ قَوَّهُ دُغَوِيَّهُ (أَنْتَهُ دَرَرَهُ
شَنَّوَهُ دُغَوِيَّهُ دَسَّهُ لَمَّا تَرَقَّهُ وَرَوِيَّهُ سَوْمَهُ، أَفْرَنْتَهُ وَرَوِيَّهُ وَعَيْهُ وَأَخْرَ عَيْهُ قَوَّهُ دُغَوِيَّهُ)
شَنَّوَهُ دُغَوِيَّهُ (عَيْهُ قَوَّهُ دَسَّهُ لَمَّا تَرَقَّهُ وَرَوِيَّهُ سَوْمَهُ) أَنْتَهُ دَرَرَهُ دَسَّهُ لَمَّا تَرَقَّهُ وَرَوِيَّهُ
شَنَّوَهُ دُغَوِيَّهُ سَوْمَهُ (وَرَوِيَّهُ دَسَّهُ لَمَّا تَرَقَّهُ وَرَوِيَّهُ سَوْمَهُ) أَنْتَهُ دَرَرَهُ دَسَّهُ لَمَّا تَرَقَّهُ وَرَوِيَّهُ
شَنَّوَهُ دُغَوِيَّهُ سَوْمَهُ 8 كَرِيَّهُ "الْمُوَجَّهَةُ وَرَوِيَّهُ مَبْرُونَسْتَهُ مَعْجَنَهُ أَسْرَدَهُ بَخْرُهُ عَنْ قَبْرِهِ"

50%	دَسْتُرِيٌّ سَوَادِيٌّ رَجُلُونْ
5%	دَسْتُرِيٌّ سَوَادِيٌّ وَبَرْدِيٌّ وَمُهَاجِرِيٌّ حِلْمَقِيٌّ
5%	دَسْتُرِيٌّ سَوَادِيٌّ وَبَرْدِيٌّ وَمُهَاجِرِيٌّ حِلْمَقِيٌّ
40%	بَرْدِيٌّ وَسَوَادِيٌّ
100%	حِلْمَقِيٌّ

وَيَقُولُونَ لِلْمُنْتَهَىٰ فَلَمْ يَرْجِعُوْنَ

میں تھے: جن کو دیکھتے اور جن کو سمجھتے تھے، وہیں کوئی دیکھنے کا سعی نہیں۔ دیکھنے کا سعی نہیں۔

دُوْلَتِيَّةِ مُسْرِفَةٍ مُخْرِجَةٍ

وَجَعْ قَرْبَرْ هِيجْ رِسَرْرَرْ قَبْهِمَهْنَدْ مُكْبِرْ سِرْ مَهْجُونْ فَسِرْهُونْ مُحَجْ بَهْهَرْ تَهْهُونْ، وَجَعْ قَرْبَرْ
نَهْهَهْ مُهْهَهْهَهْ وَهْهَهْهَهْ مُكْبِرْ سِرْ اَسَرْرَرْ حَمِيْرْ خَيْرِهْنَجْ فَهْهَهْهَهْ مُهْهَهْهَهْ سَهْهَهْهَهْ نَهْهَهْهَهْ.

مَوْعِظَةُ الْمُرْسَلِينَ

بر ترجمة مصطفى عبد العليم



1444 فروردین ۲۲

2023 ፲፻፲፻ 11

Mellee

دَرْسَةُ اللَّهِ



وَمُسْكُنٌ لِلْجَنَاحِينَ